



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

ٹوٹل نمبر 25

اردو

معروضی سوالات (40%)

سوال نمبر ۱۔ ابن خطاب کس صحابی کی کنیت ہے؟	حضرت ابوبکر صدیقؓ	حضرت خالد بن ولیدؓ	حضرت عمر فاروقؓ	حضرت عثمان غنیؓ
سوال نمبر ۲۔ باسکٹ بال کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟	11 کھلاڑی	10 کھلاڑی	6 کھلاڑی	5 کھلاڑی
سوال نمبر ۳۔ اندھا کا مونٹ کیا ہے؟	اندھن	اندھیا	اندھی	اندھن
سوال نمبر ۴۔ دوڑ دھوپ کے لغوی معنی کیا ہے؟	(دھوپ میں دوڑنا)	بھاگنا	کوشش کرنا	دھوپ میں بیٹھنا
سوال نمبر ۵۔ شیر خوار میں "خوار" استعمال ہوا ہے۔	فعل	لاحقہ	سابقہ	ان میں سے کوئی نہیں
سوال نمبر ۶۔ ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا ہے؟	(قائد اعظم)	لیاقت علی خان	امیر الدین قدوائی	حفیظ جالندھری
سوال نمبر ۷۔ قومی پرچم کا سبز حصہ ترجمانی کرتا ہے؟	(مسلمانوں کی)	غیر مسلموں کی	جنگلات کی	سب کی
سوال نمبر ۸۔ اکبر کا مترادف لفظ کون سا ہے؟	(طاقتور)	بڑا	نمایاں	(مغرور)
سوال نمبر ۹۔ آخری مغل بادشاہ کون تھے؟	(اوٹنگزیب عالمگیر)	اکبر	بہادر شاہ	ساہ عالم ثانی
سوال نمبر ۱۰۔ وہ سکول جارہا ہے۔ کون سا زمانہ ہے؟	(فعل حال)	فعل ماضی	فعل مستقبل	(فعل بعید)
سوال نمبر ۱۱۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟	(بھائی چارہ)	اکٹھا ہونا	مل جل کر رہنا	خوب محنت کرنا
سوال نمبر ۱۲۔ "دنگ رہ جانا" کے معنی کیا ہیں؟	(بہت خوش ہونا)	باغ باغ ہونا	لا جواب ہونا	حیران ہونا
سوال نمبر ۱۳۔ جو نام ماں باپ، بیٹا بیٹی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے اسے کہتے ہیں۔	(عرف)	خطاب	کنیت	ان میں سے کوئی نہیں
سوال نمبر ۱۴۔ لفظ پڑھنا اردو گرائمر کے لحاظ سے کیا ہے؟	(اسم)	فعل	حروف	(مہمل)
سوال نمبر ۱۵۔ وزن کی جمع ہے۔	(اوزان)	اوزعنه	وزائن	ان میں سے کوئی نہیں

موضوعی حصہ (60%)

سوال نمبر ۱۶۔ اپنے دوست کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کے لئے خط لکھیں۔
سوال نمبر ۱۷۔ اپنی پسند کی کوئی کہانی لکھیں۔

سوال نمبر ۱۔ زبان کی نوک پر کس ذائقے کے ٹیٹ بڈ پائے جاتے ہیں؟	(نملین)	میٹھے	ترش	(کڑوے)
سوال نمبر ۲۔ ہموار شیشے میں بننے والا کس کس ساز کا ہوتا ہے؟	(چیز سے چھوٹا)	چیز سے بڑا	چیز کے برابر	چیز کا 3/4
سوال نمبر ۳۔ انسانی کان کا کون سا حصہ آواز کی لہروں کو کوچیلہ تک پہنچاتا ہے؟	(پینا)	کان کی نالی	کان کا پردہ	درمیانی کان کی ہڈیاں
سوال نمبر ۴۔ کیلشیم کی علامت کیا ہے؟	(K)	KI	Ca	(Cl)
سوال نمبر ۵۔ رنگوں کے آمیزے کو کس عمل کے ذریعے الگ کیا جاسکتا ہے؟	(عمل تقصیر)	کرومیٹوگرافی	عمل تقطیر	ان میں سے کوئی نہیں
سوال نمبر ۶۔ وہ جانور جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟	(ہمہ خور)	گوشت خور	نبادات خور	کرم خور
سوال نمبر ۷۔ کوئی بافتیں جڑوں سے پتوں تک پانی ترسیل کرتی ہیں؟	(زائیم)	فلوئم	اپراپی ڈرس لوو اپی ڈرس	
سوال نمبر ۸۔ شہاب ثاقب کی کتنی اقسام ہیں؟	(دو)	چار	تین	(ایک)
سوال نمبر ۹۔ پاکستان نے سیٹلائٹ بدرون کو کب خلا میں بھیجا؟	(1969)	1973	1975	(1990)
سوال نمبر ۱۰۔ بصری اعصاب کا کیا کام ہے؟ (کسی چیز کے عکس کو بنانا ہے)	(کونکہ)	آکھ سے دماغ تک پیغام پہنچانا ہے	آنکھ کی حفاظت کرتا ہے	ان میں سے کوئی نہیں
سوال نمبر ۱۱۔ درجہ ذیل میں سے کون سا عالمگیر محفل ہے؟		قدرتی گیس	پانی	دودھ



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

General Science

Total Marks: 25

Objective Part- 40%

- Q. 1- Which test buds are found at the top of tongue?
a. Salt b. Sweet c. Sour d. Bitter
- Q. 2- The size of image formed in a plane mirror is;
a. Smaller than object b. Larger than object c. Equal to the object d. $\frac{3}{4}$ of the object
- Q. 3- Which part of the human ear transfer sound waves to the cochlea?
a. Pinna b. Ear canal c. Eardrum d. Bones of Middle Ear
- Q. 4- The symbol of calcium is;
a. K b. Kl c. Ca d. Cl
- Q. 5- A mixture of colours can be separated by which technique?
a. Sublimation b. Chromatography c. Filtration d. None of these
- Q. 6- Animals which eat other animals are called;
a. Omnivorous b. Carnivorous c. Herbivores d. Insectivorous
- Q. 7- Which tissues transport water from roots to leaves in plant?
a. Xylem b. Phloem c. Upper epidermis d. Lower epidermis
- Q. 8- How many kinds of meteors are there?
a. Two b. Four c. Three d. One)
- Q. 9- When the satellite Badar-1 was sent into space by Pakistan?
a. 1969 b. 1973 c. 1975 d. 1990)
- Q. 10- The function of optic Nerve is;
a. To make the image of the object b. Carries message from the eye to the brain
c. Protect eye d. None of these
- Q. 11- Which substance is called Universal solvent?
a. Alcohol b. Oil c. Water d. Milk
- Q. 12- Which one of the following is a source of renewable energy?
a. Coal b. Natural Gas c. Air d. Petrol
- Q. 13- The inner most layer of skin is called;
a. Epidermis b. Dermis c. Hypodermis d. Endodermis)
- Q. 14- Which gas is filled in electric bulbs?
a. Oxygen b. Carbon di oxide c. Nitrogen d. Helium)
- Q. 15- Function of vacuole in the cell is;
a. Prepare food b. To protect the cell c. To store water and food d. To produce energy)

Subjective Part (60%)

- Q. 1- Draw the diagram of human eye and label it.
- Q. 2- Write down a detail note on the structure of human ear.
- Q. 3- What is Photosynthesis? Write down five properties of carbon dioxide.



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

ٹوٹل نمبر 25

General Science

اردو میڈیم (معروضی سوالات)

سوال نمبر 1۔ زبان کی نوک پر کس ذائقے کے ٹیسٹ بڈز پائے جاتے ہیں؟

(نمکین میٹھے ترش کڑوے)

سوال نمبر 2۔ ہوا تیشے میں بننے والا کس کس سائز کا ہوتا ہے؟

(چیز سے چھوٹا چیز سے بڑا چیز کے برابر چیز کا 3/4)

سوال نمبر 3۔ انسانی کان کا کون سا حصہ آواز کی لہروں کو کوچیلہ تک پہنچاتا ہے؟

(پینا کان کی نالی کان کا پردہ درمیانی کان کی ہڈیاں)

سوال نمبر 4۔ کیلشیم کی علامت کیا ہے؟

(Cl Ca KI K)

سوال نمبر 5۔ رگوں کے آمیزے کو کس عمل کے ذریعے الگ کیا جاسکتا ہے؟

(عمل تقصیر کرومیٹوگرافی عمل تقطیر ان میں سے کوئی نہیں)

سوال نمبر 6۔ سوہ جانور جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟

(ہمہ خور گوشت خور نباتات خور کرم خور)

سوال نمبر 7۔ کوئی بافتیں جڑوں سے پتوں تک پانی ترسیل کرتی ہیں؟

(زائلم فلوئم اپر اپی ڈرس لوور اپی ڈرس)

سوال نمبر 8۔ شہاب ثاقب کی کتنی اقسام ہیں؟

(دو چار تین ایک)

سوال نمبر 9۔ پاکستان نے سمیٹلائٹ بدرون کو کب خلا میں بھیجا

(1990 1975 1973 1969)

سوال نمبر 10۔ بصری اعصاب کا کیا کام ہے؟

(کس چیز کے ریس کو بناتا ہے آنکھ سے دماغ تک پیغام پہنچاتا ہے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے ان میں سے کوئی نہیں)

سوال نمبر 11۔ درجہ ذیل میں کون سا عالمگیر تحلیل ہے؟

(کوئلہ قدرتی گیس پانی دودھ)

سوال نمبر 12۔ درجہ ذیل میں سے کس قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے؟

(کوئلہ قدرتی گیس ہوا پٹرول)

سوال نمبر 13۔ جلد کی سب سے پہلی تہہ کہلاتی ہے۔

(اپی ڈرس ڈرس بائی ڈرس اینڈی ڈرس)

سوال نمبر 14۔ بجلی کے بلب میں کونسی گیس بھری جاتی ہے؟

(آکسیجن کاربن ڈائی آکسائیڈ نائٹروجن ہیلیم)

سوال نمبر 15۔ خلیہ میں ویکول کا کام ہے۔

(خوراک تیار کرنا خلیہ کی حفاظت کرنا خوراک اور پانی جمع کرنا توانائی پیدا کرنا)

موضوعی سوالات (60%)

سوال نمبر 16۔ انسانی آنکھ کا ڈائیگرام کھینچ کر اسے لیبل لگائیں۔

سوال نمبر 17۔ انسانی کان کی بناوٹ پر تفصیل نوٹ لکھیں۔

سوال نمبر 18۔ ضیائی تالیف کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی پانچ خصوصیات لکھیں۔



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

Total Marks: 25

MODEL PAPER ENGLISH

Objective Part- 40%

Q. 1- What is the opposite of "True"?

- a. Truth b. Falsehood c. False d. Wrong

Q. 2- Translate into English: (تم مجھ سے زیادہ لمبے ہو)

- a. You are taller to me b. You are taller from I.
c. You are taller than me. d. You are taller with me.

Q. 3- Choose the correct translation of the sentence. (کیا وہ دوبکے سے پڑھ رہا ہے؟)

- a. Has he been reading since 2 o'clock? b. Has he reading since 2 o'clock?
c. Has he been reading from 2 o'clock? d. Is he been reading since 2 o'clock?

Q. 4- What is the plural "knife"?

- a. Knifes b. Knives c. Kniffes d. Knifees)

Q. 5- He does not agree _____ me.

- a. With b. To c. For d. For

Q. 6- Fill in the blanks with suitable word/ preposition.

(Please send this letter _____ my address)

- a. At b. On c. To d. In

Q. 7- Choose the correct indirect sentence; (He said, "I am not a thief.")

- a. He said that he is not a thief. b. He said that he was not a thief.
c. He said that I was not a thief. d. He said that I were not a thief.

Q. 8- Choose the correct passive voice; (I have done my job)

- a. My job have been done by me. b. My job has been done by I.
c. My job has been done by me. d. Job is done by me.

Q. 9- Choose the correct spelt word;

- a. Enxious b. Anxious
c. Anxeious d. Anexious

Q. 10- Which tense is this? (He was playing cricket)

- a. Present Continuous b. Future Perfect c. Past Perfect d. Past Continuous

Q. 11- Change into negative. (The bell rings at 8:00 am)

- a. The bell do not ring at 8:00 am. b. The bell did not ring at 8:00 am.
c. The bell does not ring at 8:00 am. d. The bell not ring at 8:00 am.

Q. 12- He is not afraid _____ death.

- a. With b. Of c. From d. To



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

Q. 13- What is the synonym of the "equal"?

- (a. Uniform b. Even c. Parallel d. None of these)

Q. 14- What is the second form of "choose"?

- (a. Chocse b. Chose c. Chosen d. Chosen)

Q. 15- Fill in the blanks with A, An, The; (I gave him _____ one rupee for _____ ink-pot.

- (a. the, a b. a, the c. the, an d. a, an)

Subjective Part (60%)

Q. 16- Write down an essay of 150 words on any one of the following.

- a. My First Day in the School. b. Importance of Education

Q. 17- Translate the following sentences into English;

ہم کب چڑیا گھر کی سیر کریں گے؟ صبح سے موسلا دار بارش ہو رہی ہے۔

Q. 18- Use the following words into your own sentences:

- a. Success b. Safety c. Challenge

(The End)



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

Mathematics

Total Marks: 25

Objective Part- 40%

- Q. 1- Solve: $4(6 \div 2 + 2) = ?$
(a. 20 b. 6.5 c. 21 d. None of these)
- Q. 2- Aslam went to market with 1000 rupees and spent 45 percent of his money, how much money he saved?
(a. 550 Rupees b. 450 Rupees c. 600 Rupees d. 800 Rupees)
- Q. 3- What among the options is billion?
(a. 10 Digits b. 8 Digits c. 12 Digits d. 4 Digits)
- Q. 4- Solve: $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 = ?$
(a. 230 b. 240 c. 260 d. 720)
- Q. 5- If the price of chocolate is 110 rupees, what will be the price of such 8 chocolates?
(a. 200 Rupees b. 210 Rupees c. 220 Rupees d. 190 Rupees)
- Q. 6- The founder of Geometry is:
(a. Musa Al Khwarzimi b. Jabir Bin Hayan c. Feetha Goras d. Al Beruni)
- Q. 7- Solve: $2 \frac{4}{5} + 1 \frac{3}{6} = ?$
(a. $14/5 + 9/6$ b. $14/5 - 9/6$ c. $5/14 + 9/6$ d. $6/9 + 5/14$)
- Q. 8- Angle of more than 90° is called:
(a. Acute b. Obtuse c. Hypogenous d. Reflex)
- Q. 9- Calculate HCF of 75, 45:
(a. 45 b. 15 c. 30 d. 20)
- Q. 10- Who introduced "0" to number?
(a. Jabir Bin Hayan b. Musa Al Khwarzini c. Aristotle d. None of these)
- Q. 11- 28 students complete a project in 15 days, how many days will it take to complete if the students are 21?
(a. 21 days b. 20 days c. 18 days d. 22 days)
- Q. 12- Add: $865.30 + 413.231$;
(a. 127.853 b. 1278.531 c. 531.278 d. None of these)
- Q. 13- Solve: $12 + (18 \div 3) = ?$
(a. 15 b. 18 c. 7 d. 4.5)
- Q. 14- Solve: $-8 \times 3 = ?$
(a. 24 b. -24 c. 12 d. 11)
- Q. 15- {a, b, c, d, e, f,} is set, which set is this?
(a. Definite Set b. Finite Set c. Infinite Set d. Empty Set)
- Q. Simplify $X + [y + \{2x + (x+y)\}]$
- Q. 17- The population of a village is 15000 out of which 9000 are male and 6000 are female. Find the percentage of both male and female.
- Q. 18- $7 \frac{3}{5} \div 3 \frac{4}{5} \times 4 \frac{1}{6} - 4 \frac{1}{6} - 4 \frac{1}{3}$
- Q. 19- 18, 27 and 36.



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

ٹوٹل نمبر 25

Mathematics

معروضی سوالات

اردو میڈیم

ان میں سے کوئی نہیں

21

6.5

20)

سوال نمبر ۱۔ حل کریں؟ $4(6 \div 2 + 2) =$

سوال نمبر ۲۔ اسلم 1000 روپے کے ساتھ مارکیٹ آیا اور اپنی رقم کا 45 فیصد حصہ بچ کیا، اس کے پاس بقیہ کتنی رقم بچی؟

(800 روپے)

600 روپے

450 روپے

(550 روپے)

(4 عدد)

12 عدد

عدد

8 عدد

سوال نمبر ۳۔ کون سا عدد ملین کہلاتا ہے؟

(720

260

240

230)

سوال نمبر ۴۔ حل کریں؟ $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5 = ?$

(190 روپے)

220 روپے

(200 روپے 210 روپے)

سوال نمبر ۵۔ 4 چاکلیٹ کی قیمت 8 روپے ہو تو ایسے 110 چاکلیٹ کی قیمت کیا ہوگی؟

البیرونی

فیثاغورث

جا. بن حیان

(مویٰ الخوارزمی)

سوال نمبر ۶۔ جیو۔ ڈی کا بی ہے۔

(6/9 + 5/14

5/14 + 9/6

14/5 - 9/6

14/5 + 9/6)

سوال نمبر ۷۔ حل کریں؟ $4/5 + 1 \frac{3}{6} = ?$

(Reflex

Hypogenous Obstute

Acute)

سوال نمبر ۸۔ 90° سے زاویہ کہلاتا ہے۔

(20

30

15

45)

سوال نمبر ۹۔ 75, 45 کا عا د اعظم معلوم کریں۔

(ان میں سے کوئی نہیں)

ارسطو

مویٰ الخوارزمی

(جا. بن حیان

سوال نمبر ۱۰۔ ریاضی میں "0" کا ہندسہ کس نے سے پہلے متعارف کروایا؟

(22 دن

18 دن

20 دن

21 دن)

سوال نمبر ۱۱۔ کسی کام کو 28 طلبہ 15 دن میں مکمل کرتے ہیں، 21 طلبہ اسی کام کو کتنے دنوں میں مکمل کریں گے؟

(ان میں سے کوئی نہیں)

531.278

1278.531

127.853)

سوال نمبر ۱۲۔ $865.30 + 413.231$ جمع کریں۔

(4.5

7

18

15)

سوال نمبر ۱۳۔ حل کریں؟ $12 + (18 \div 3) = ?$

(11

12

-24

24)

سوال نمبر ۱۴۔ حل کریں؟ $-8 \times 3 = ?$

(غیر متناہی / لامتناہی .. خالی ..)

متناہی / محدود ..

(متعلقہ ..

سوال نمبر ۱۵۔ {a, b, c, d, e, f,} کون سا .. ہے؟

موضوعی حصہ (60)

سوال نمبر ۱۶۔ مختصر کریں $16 - X + [y + \{x + y\}]$

سوال نمبر ۱۷۔ کسی گاؤں کی آبادی 15000 ہے جس میں 9000 مرد اور 6000 عورتیں ہیں، مرد اور عورت دونوں کی فیصد آبادی معلوم کر

سوال نمبر ۱۸۔ مختصر کریں $7 \frac{3}{5} \div 3 \frac{4}{5} \times 4 \frac{1}{6} - 4 \frac{1}{3}$

سوال نمبر ۱۹۔ 18, 27 اور 36 کا عا د اعظم معلوم کریں۔



THE SAIFIANS

CADET COLLEGE

KILLA SAIFULLAH

ADDRESS SLIP

Please write your Postal address in block letters on all the four slips for dispatch of Roll No slips/ letters. The address must be the same as given in column 6 of the application.

Roll No: _____ (For office Use only)

Candidate Name: _____

Father Name: _____

Address: _____

Tel# _____ Cell # _____ Cell # _____ Res # _____

Roll No: _____ (For office Use only)

Candidate Name: _____

Father Name: _____

Address: _____

_____ City

Tel# _____ Cell # _____ Cell # _____ Res # _____

Roll No: _____ (For office Use only)

Candidate Name: _____

Father Name: _____

Address: _____

_____ City

Tel# _____ Cell # _____ Cell # _____ Res # _____

Roll No: _____ (For office Use only)

Candidate Name: _____

Father Name: _____

Address: _____

CADET COLLEGE KILLA SAIFULLAH

APPLICATION CUM ADMISSION FORM FOR CLASS 7th 20__

FOR OFFICE USE ONLY	Roll NO.	
	Kit No.	
	Date of Admission	
	Wing	
	Selected against	



**One Passport Size
Photograph
Attested on the
front side to be
pasted here**

STUDENT BIODATA

1. Name of Student (in block letters) According to Certificate:

NADRA B-Form No. (CNIC No.) of Student (Compulsory)

[illegible]

2. Father's Name (in Black Letters) According to Certificate:

[illegible]

CNIC No. of Father:

					-		☆						-	☆
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	---

والد کا نام (اردو میں)

3. Date of Birth (According to Certificate) (in words)

[illegible]

4. Place of Birth (Tehsil)	District of Local/ Domicile	Division / Zone	Province
----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------

		Balochistan/_____
--	--	-------------------

5. Religion	Sect	Caste/ Sub Caste	Nationality
-------------	------	------------------	-------------

			Pakistani/ _____
--	--	--	------------------

6. Postal Address:

[illegible]

7. Permanent Address: (if other than Postal Address in S. No.6)

Phone#	Mobile#
--------	---------

8. There will be only one Center where you have to appear in Entry Examination:

Conduct by NTS

Quetta

9. Father's Occupation

10. Details of Father/ Guardian Annual Income: Total Rs.

11. Detail of Fee Receipt:

Deposit Slip No Bank Branch: Date:

(Also attach Deposit slip/ Challan form of admission Form fee, deposited in Bank)



EDUCATIONAL CERTIFICATE BY THE HEAD OF INSTITUTION

- a) Name of candidate (according to school record) _____
- b) Father's Name (according to school record) _____
- c) Class in which studying _____
- d) Medium of Instruction of school _____
- e) Date of Birth according to school record (in figures) _____
(in words) _____
- f) His performance has been rated as _____ % in previous exam. He is expected to get through in annual examination of class _____ securing more than _____ % marks.

Note: Cutting, omission and erasing in **Date of Birth** is strictly prohibited and the same leads for disqualification.

- g) Name of School in which studying _____

Name of Headmaster/ Principal _____

Signature and Stamp

Contact No. _____ Date: _____

INSTRUCTIONS (ہدایات)

1. Any false information in the application form will lead to disqualification for admission at any sage.
۱۔ درخواست فارم میں کسی قسم کی غلط معلومات سے امیدوار کو کسی بھی مرحلے پر داخلے کیلئے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔
2. Application form must be sent through registered mail/ courier before last date.
۲۔ درخواست فارم بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک یا کسی بھی کوریئر سروس سے آخری تاریخ سے پہلے بھیجا جائے۔
3. Postal charges, examination fee and allied charges, etc. are included in the cost of the prospectus.
۳۔ ڈاک کا خرچہ، امتحانی فیس اور مجموعی اخراجات وغیرہ پراسپیکٹس کی قیمت میں شامل ہیں۔
4. Postal address at S. No. 6 should not be of any school or college. Institution should be informed incase of any change in address.
۴۔ سیریل نمبر 6 میں ڈاک کا پتہ کسی سکول یا کالج کا نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں ادارہ ہذا کو اطلاع دی جائے۔
5. Late receipt, incomplete applications, the applications of those who are overage/ underage shall not be entertained.

نوٹ: امیدوار کی عمر کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں، نامکمل اور دیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ کالج کی طرف سے نامکمل فارم کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی جائے گی۔

The following documents must be attached with the application form/ (Tick or Cross X)

1.	4 Passport size Photographs (Attested 02 on front side 02 on back side)	
2.	Attested Copy of Computerized National Identity Card (CNIC) of Father.	
3.	Attested Copy of B-Form (Issued by NADRA), Birth Certificate is not acceptable	
4.	Attested copy of Local/ Domicile Certificate of Candidate OR Father	
5.	Attested Copy of page of the Admission withdrawal register of concerned School	
6.	Attestation of above certificate from concerned School	
7.	Address Slip (Attached with form)	

Note: Original Bank Deposit slip/ Challan form must be attached with form

Bank Deposit slip/ Challan form Original

Signature of Candidate

Dated: _____

Signature of Father / Guardian

ADMISSION NOTE (FOR OFFICE USE ONLY)
Admitted / Not Admitted

In-charge Admission

Record of Special Remarks (if any)

Principal